

21745 - کیا غسل خانے میں بیوی سے جماع کرنا جائز ہے

سوال

غسل خانے میں بیوی سے جماع کرنے کا کیا حکم ہے؟ - اللہ تعالیٰ آپ کو عزت و شرف سے نوازے - کیونکہ جب کوئی اپنی بیوی کے ساتھ غسل کر رہا ہو اور وہ اس وقت خواہش کا شکار ہو تو اس کا جواب کیا ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

سوال کرنے والے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حرام سے بچا کر حلال کے ساتھ غنی کر دے، آپ نے جو کچھ سوال میں ذکر کیا ہے اس کا مندرجہ ذیل نقاط میں جواب دیا جاتا ہے:

1 - موجودہ دور میں نئے گھروں کے اندر باتھ روم پہلے دور سے بہت ہی مختلف ہیں جیسا کہ آپ کے ملک میں بھی ہے جسے پاخانہ کرنے کی جگہ اور قضاے حاجت کے لیے بنایا جاتا تھا، اور جہاں پر نجاست اور کیڑے و مکوڑے اورتعفن و بدبو وغیرہ پائی جاتی تھی -

لیکن آج کے دور میں لیٹرین اور غسل خانے ان اشیاء سے خالی ہوتی ہیں بلکہ ان میں توصفائی کا بہت انتظام پایا جاتا ہے اور وہاں پر نجاست قسم کی کوئی چیز نہیں ملتی بلکہ فوری طور پر غائب ہو جاتی ہے، تو اس طرح اس کی حالت قضاے حاجت والی پہلی جگہوں سے مختلف ہوگی، اور ان میں ایسے فرق ہیں جو کہ پہلی نظر میں ہی نظر آجاتے ہیں اور کسی پر بھی مخفی نہیں -

تو اس بنا پر کوئی ایسا مانع ظاہر نہیں ہوتا کہ وہاں پر ضرورت پڑنے پر وہ اپنی خواہش پوری کی جاسکے جو کہ آپ نے سوال میں ذکر کی ہے، لیکن اس کے لیے پڑھی جانے والی دعا باہر جاکر پڑھے اور پھر واپس آجائے کیونکہ ننگے اور لیٹرین و غسل خانہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوسکتا -

2 - انسان اپنی بیوی سے حاجت کو اس وقت پوری کرتا ہے جب اس میں یہ خواہش پیدا ہو اور یہ خواہش پیدا ہونے

اسلام سوال و جواب

نگران اعلیٰ:
شیخ محمد صالح المنجد

کے بہت سے اسباب ہیں یا تو دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے یا پھر لمس اور چھونے وغیرہ سے ، اس لیے جب شہوت آئی ہو تو اسے اس حالت میں پورا کرنا عفت و عصمت اور آنکھوں کو نیچے کرنے اور شہوت کی سرکشی و تیزی کو روکنے کا باعث ہے ۔

حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی راہنمائی فرمائی ہے ۔

جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو دیکھا تو آپ اپنی بیوی ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے تو وہ ایک کھال کو رگڑ رہی تھی (یعنی اسے دباغت دے رہی تھی) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی حاجت پوری فرمائی ۔

اس کے بعد وہ اپنے صحابہ کے پاس گئے اور فرمائے لگے :

یقیناً عورت شیطان کی صورت میں ہی آتی اور جاتی ہے توجب بھی کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئے اس لیے کہ ایسا کرنے سے اس کے ذہن میں جو کچھ آیا ہوگا وہ چلا جائے گا ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر (1403) ۔

عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

(عورت اللہ تعالیٰ کے سارے حقوق کی ادائیگی اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے خاوند کے مکمل اور سارے حقوق ادا نہ کر دے ، اگر خاوند اس کا نفس اس سے مانگے اور وہ کجاوے پر بھی ہو تو اسے دینا چاہیے) مسند احمد حدیث نمبر (19403) یہ الفاظ مسند احمد کے ہیں ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر (1853) صحیح ابن حبان حدیث نمبر (4171) ۔

3 - اور یہ بھی کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شہوت پیدا ہونے کی صورت میں اسے عفاف اور عصمت اور اچھی اور مباح چیز سے پوری کرنے کی نیت کرنا نہ بھولے ، کیونکہ اس کا ایسا کرنا اس کے لیے نیکی و صدقہ کا درجہ رکھتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے :

ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

(اور تمہاری شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے)

اسلام سوال و جواب

نگران اعلیٰ:
شیخ محمد صالح المنجد

صحابہ عرض کرنے لگے : اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کوئی ایک اپنی شہوت پوری کرے تو کیا اسے اس میں بھی اجر ملے گا ؟

نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے :

اچھا یہ بتاؤ کہ اگر وہ اسے کسی حرام کام میں استعمال کرے تو کیا اسے اس میں گناہ ہوگا ؟

تو اسی طرح اگر وہ اسے حلال کام میں استعمال کرتا ہے تو اسے اجر و ثواب حاصل ہوگا - صحیح مسلم حدیث نمبر (1006) -

تو اس بنا پر اسے جماع کرنے سے پہلے اس حالت میں بھی وہ دعا پڑھنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے (لیکن وہ ننگے ہو کر یا پھر اندر ہی نہیں بلکہ کپڑے پہن کر اور غسل خانے سے باہر نکل کر پڑھے) :

عبدالله بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو وہ یہ دعا پڑھے :

(بسم اللہ ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا) اللہ تعالیٰ کے نام سے ، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور جو کچھ ہمیں عطا کرے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ -

اگر اس ہم بستری کی بنا پر انہیں کوئی اولاد دی گئی تو اسے شیطان کبھی بھی نقصان نہیں دے سکے گا - صحیح بخاری حدیث نمبر (6388) صحیح مسلم حدیث نمبر (1434) -

اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے اور آپ میں برکت اور آپ پر برکت کا نزول فرمائے -